

پائیلیٹس

لبی، گھنی اور مضبوط جڑوں کیلئے



اریستا لائف سائنس پاکستان (پائیلیٹس) میڈیم



پائیٹس

پائیٹس ایک نامیاتی پراؤ کٹ ہے جو پودوں سے حاصل کردہ قدرتی اجزاء (Plant Extracts) فلوك ائڈ، اماکنوائٹ، اینو اسٹول، زنک اور دوسرے اہم اجزاء پر مشتمل منفرد فارمولہ ہے۔ جو پودے کی جڑوں کو لمبا، گھنا اور مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے اور پودے کو بھر پور آغاز فراہم کرتا ہے۔



پائیٹس کی خصوصیات و فوائد

- ◆ اپنی نوعیت کا منفرد پراؤ کٹ ہے۔
- ◆ فصلوں، سبزیوں اور چلدار باغات کی بڑھوتری کیلئے خاص فارمولہ ہے۔
- ◆ جڑوں کی کارکردگی اور ان میں موجود انعام کو متوازن کرتا ہے۔
- ◆ پائیٹس جڑوں کی لمبائی اور Root Fiber کی تعداد کو بڑھاتا ہے۔
- ◆ جڑوں کی ساخت اور کارکردگی بہتر بناتا ہے نتیجتاً پودے کو بھر پور اور تو ان آغاز ملتا ہے۔
- ◆ فلوك ائڈ کی موجودگی سے زمین سے اجزاء کی فراہمی میں اضافہ ہوتا ہے۔
- ◆ پائیٹس کے استعمال سے پودوں میں پانی اور دوسرے خوار کی اجزاء کو جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے نتیجتاً پیدا اور کوائٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔
- ◆ استعمال میں آسان، ڈرپ اریکشن اور آپاشی میں استعمال کی سہولت ہوتی ہے۔
- ◆ پائیٹس کو فصل کے ابتدائی مرحلہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔
- ◆ فصل اور ماحول پر کسی قسم کا کوئی منفی اثر نہیں ہوتا۔

جڑیں جاندار ... بھرپور آغاز



پائلیٹس اریٹالاائف سائنس کے تجربات کی روشنی میں

کپاس



دھان



پائلیٹس کے استعمال کے بغیر

پائلیٹس کے استعمال کے ساتھ

مرچ



پانی پیش کے استعمال کے بغیر

پانی پیش کے استعمال کے ساتھ

گندم



پانی پیش کے استعمال کے بغیر

پانی پیش کے استعمال کے ساتھ





ٹماٹر

پانچیش کے استعمال کے بغیر

پانچیش کے استعمال کے ساتھ



جھنڈی

پانچیش کے استعمال کے بغیر

پانچیش کے استعمال کے ساتھ





کدو



۳۰۱

پائلیٹس کے استعمال کے ساتھ پائلیٹس کے استعمال کے بغیر

پالیٹس کے استعمال کے ساتھ پالیٹس کے استعمال کے بغیر

فل	مقدار	وقت استعمال
چاول	1 یکسری نانال	جنوی کا تجھے وقت آپاٹی کے ساتھ استعمال کریں
کپاس	1 یکسری بیکر	جنوی کی ٹکنی کے وقت پر رجیم آپاٹی استعمال کریں
گندم		(اگو) چاول نملہ ہونے پر رجیم آپاٹی استعمال کریں۔
آلو		(اگو) چاول نملہ ہونے پر رجیم آپاٹی استعمال کریں۔
پیاز		(اگو) چاول نملہ ہونے پر رجیم آپاٹی استعمال کریں۔
تمار		جنوی کا تجھے وقت آپاٹی کے ساتھ استعمال کریں
مرچ		جنوی کی ٹکنی کے وقت پر رجیم آپاٹی استعمال کریں
کھیڑا، کدو، بخڑبوزہ، تربوز		جنوی کی ٹکنی کے وقت پر رجیم آپاٹی استعمال کریں
بانات		(اگو) چاول نملہ ہونے پر رجیم آپاٹی استعمال کریں
مکمل اغذیہ بننے کے لئے فنے 20 میٹر سے ہے جو کسی اور درستی دیجیٹر اسٹرٹ 15 ہو تو پر رجیم آپاٹی استعمال کریں		
دوسرا دفعہ: مکمل اغذیہ کے 20 دن پر استعمال کریں		

- پاکیش کو کسی بھی دوسرا کھا، کیڑے مارا دیا ہے اور کچھ بوندی کٹش ادیات کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاسکتا ہے تاہم کچھ بنانے سے پہلے آئیز کامیٹ کر لیں۔
- دھان کے اندر پاکیش کو کٹیر پول کر لیجئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مزید معلومات کیلئے

ارڈسٹا لائف سائنس، پاکستان (درائیورٹ) لمسٹ

Digitized by srujanika@gmail.com